

## برامپٹن فائر اب جارج ہچکاک برسری کے لیے درخواستیں قبول کر رہا ہے

برامپٹن، آن (5 فروری 2021) – فائر سروسز میں کریئر بنانے میں دلچسپی رکھنے والے رہائشیوں کو دعوت دی جاتی ہے، کہ وہ جارج ہچکاک میموریل انٹومنٹ فنڈ، جسے عام طور پر جارج ہچکاک برسری کہا جاتا ہے، میں درخواست دیں۔

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے مرحوم ڈیویژن چیف جارج ہچکاک کے اعزاز میں 2014 میں جارج ہچکاک میموریل انٹومنٹ فنڈ تخلیق کیا، جنہوں نے 33 سال تک برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے لیے خدمات انجام دیں۔ انہوں نے فائر/لائف سیفٹی ایجوکیشن ڈیویژن کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا، جو ہر سال برامپٹن کے ہزاروں شہریوں کو آف سے حفاظت کی تعلیم فراہم کرنے میں کارآمد ہوتی ہے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کو فائر سروسز میں کریئر پر غور کرنے کی توجیہ دی اور حوصلہ افزائی کی۔

ہر سال ایسے افراد کے لیے جارج ہچکاک برسری کی پیشکش کی جاتی ہے، جو فائر سروسز میں کریئر بنانے میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ یہ برسری کامیاب درخواست دہندگان کی بعد از ثانوی تعلیم کی فیسوں کے لیے ہے۔

مزید معلومات اور درخواست فارم حاصل کرنے کے لیے، [www.bramptonfire.com](http://www.bramptonfire.com) ملاحظہ کریں۔

### تقاضے جات

فنڈ کے لیے اہل ہونے کے لیے، درخواست گزاروں کو درج ذیل شرائط پر پورا اترنا ہو گا:

- اس شخص کو برامپٹن کا رہائشی اور کینیڈا کا شہری یا کینیڈا میں کام کرنے کے قابل ہونا چاہیے
- درخواست دہندہ آگ بجھانے سے متعلقہ کسی پروگرام میں اونٹاریو پوسٹ سیکنڈری اسکول ڈپلوما حاصل کر رہا ہو
- درخواست دہندہ کو درخواست فارم میں بیان تقاضوں کو پوری طرح مکمل کرنا چاہیے
- درخواستوں کو آخری تاریخ تک جمع کروا دیا جانا چاہیے
- انٹرویو کے عمل کے بعد، کامیاب درخواست دہندہ کو کسی اونٹاریو پوسٹ سیکنڈری اسکول پروگرام میں داخلے کا ثبوت لازمی طور پر فراہم کرنا ہو گا

### عمل

درخواست فارمز [www.bramptonfire.com](http://www.bramptonfire.com) پر آن لائن دستیاب ہیں اور [firelife@brampton.ca](mailto:firelife@brampton.ca) پر بھیجے جانے چاہیں۔ درخواستوں کا عرصہ 1 اپریل 2021 کو یا 30 درخواست کے موصول ہونے پر بند ہو جائے گا۔

شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کا انٹرویو لیا جائے گا اور ایک درخواست دہندہ کو کورس میں اندراج کروانے پر \$1,000 کی برسری کے لیے منتخب کیا جائے گا۔

### اقتباسات

"میں فائر سروسز میں کریئر کے خواہشمند برامپٹن کے اہل رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ جارج ہچکاک برسری کے لیے درخواست دیں۔ برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے اور ہماری فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اس بات کو یقینی بنانے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، کہ ہماری کمیونٹی تحفظ یافتہ ہو۔ سٹی ہر سال ایسے افراد کو معاونت کی پیشکش کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے، جو فرق پیدا کرنے کے لیے وقف ہوں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا عملہ ہماری کمیونٹی کا تحفظ کرنے اور لوگوں اور املاک کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہک محنت کرتا ہے۔ ہم فائر سروسز میں کریئر کے لیے کام کرنے کو سراہتے ہیں اور برامپٹن کے تمام اہل رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ جارج ہچکاک میموریل انٹومنٹ فنڈ کے لیے درخواست دیں۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ڈیوڈن چیف جارج ہچکاک فائر سروسز اور آگ اور زندگی کی حفاظت کے متعلق تعلیم کے متعلق پرلگن تھے۔ یہ برسی ان کی برامپٹن فائر کے لیے قیمتی خدمات کی ایک میراث کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ ہم غیر معمولی خدمات کی اپنی روایت کو جاری رکھنے کے لیے خواہشمند فائر فائٹرز کی اگلی نسل کو معاونت فراہم کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔"

- بل بوائز، چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

"ہماری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم کونسل کے دور دور کی ترجیح برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے کو آگے بڑھانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ فائر سروسز میں دلچسپی رکھنے والے رہائشیوں، جو اپنی کمیونٹی کے تحفظ کا جذبہ رکھتے ہیں، کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ جارج ہچکاک برسی کے لیے درخواست دیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

گروندر سنگھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشنز

سٹی آف برامپٹن

905-874-2028 | [Gurvinder.A.Singh@brampton.ca](mailto:Gurvinder.A.Singh@brampton.ca)